



ترجمہ: اور جب ہم نے انبیائے کرام سے انہی کا وعدہ لیا، اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ [الاحزاب: 7]

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَشْرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ نَاوِضِي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْفَيْتُنَا الْبَيْتَ وَنَاوِضِينَاهُ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشُّرَكِيِّنَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ واریت میں مت پڑنا۔ آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لئے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ [الشوری: 13]

ان میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالیٰ خصوصی عنایتوں سے نوازا، جن کی بدولت ان کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوا، چنانچہ اس حوالے سے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر: (3/249) میں کہتے ہیں:

"کچھ پیغمبروں کا دیگر پر فضیلت پانے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بقیہ سے بڑھ کر فضیلت کے ذرائع اور وسائل سے نوازا تھا۔" ختم شد

چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی کہ انہیں اہل زمین کی جانب سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں "شکر گزار بندہ" قرار دیا۔

اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، فرمان باری تعالیٰ ہے: **وَاصْطَفَى اللّٰهُ اِبْرٰهٖمَ خَلِيْلًا** ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ [النساء: 125] آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیشوا مقرر کیا، فرمان باری تعالیٰ ہے: **قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمًا** ترجمہ: اللہ نے فرمایا: میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ [البقرہ: 124]

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

قَالَ يَا مُوسٰى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَاَبْلَاغِيْ خُذْ مَا آتٰتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے تمہیں اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے لوگوں سے چنیدہ بنایا ہے، اب میں نے تمہیں جو دیا ہے اسے تمام اور شکر گزاروں میں شامل رہ۔ [الاعراف: 144]

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

وَاصْطَفَيْتُكَ لِتُخَيِّرَ النَّاسَ

ترجمہ: اور میں نے تجھ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ [طہ: 41]

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَيُضَعُّ عَلٰى عِيْنِيْ

ترجمہ: اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ [طہ: 39]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر فضیلت عطا فرمائی، انہیں اپنا کلمہ کہتے ہوئے سیدہ مریم کی طرف ان کا القا کیا، اپنی روح قرار دیا، آپ نے لوگوں سے بچپن میں بات کی۔

ایک اور اعتبار سے بھی انبیائے کرام میں درجہ بندی پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "مجموع الفتاوی" (35/34) میں کہتے ہیں:

"تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ کبھی نبوت میں ملوکیت بھی شامل ہوتی ہے؛ کیونکہ اللہ کے بھیجے گئے نبی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں:



الف: ان کی تکذیب کی جائے، کوئی ان پر ایمان نہ لائے اور نہ ہی کوئی ان کی اطاعت کرے، تو وہ ایسے نبی ہیں جنہیں ملوکیت نہیں دی گئی۔
ب: صاحب نبوت کے پیر و کار ہوں، تو کسی نبی کے پیر و کار بھی ہوں تو یہی ملوکیت ہے۔ لیکن اگر نبی اپنے پیر و کاروں کو صرف وہی حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے تو ایسے نبی کو ملوکیت نہیں دی گئی بلکہ وہ رسول اور عبد ہیں، ان کے پاس بادشاہت والے اختیارات نہیں ہیں۔

ج: اور اگر کوئی نبی جائز احکامات اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہوں، تو ایسے نبی کو ملوکیت بھی دی گئی ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے:

بِذَاعْطَانَا فَا نَمْنُ اَوْ اَمْكُ بِنَغِيرِ حَاسِبٍ

ترجمہ: یہ ہماری عطا ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے تجھ پر کوئی حساب نہیں [ص: 39] لہذا آپ نبی بھی تھے اور آپ کو ملوکیت بھی دی گئی تھی۔
تو یہاں پر "بادشاہ نبی" کے مقابل "رسول عبد" آتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ: (آپ یا تو "رسول عبد" بننا پسند کریں یا "بادشاہ نبی" بننا پسند کریں۔) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "رسول عبد" بننا پسند کیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو فرمانروائی ملی، آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی اور آپ کے پیر و کار بھی بنے۔ جس کا فائدہ آپ کو یہ بھی دیا گیا کہ آپ پیش رو اور پیش و لتھے لہذا آپ کے پیر و کاروں کا اجر بھی آپ کو ملا، پھر آپ کے عبدیت کے حامل رسول ہونے کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ لوگ آپ سے مستفید ہوئے، آپ کی بدولت لوگوں پر رحم کیا گیا، اور لوگوں کی وجہ سے آپ پر رحم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ بننا پسند نہیں کیا کہ مبادا آخرت میں اجر کم نہ ہو جائے؛ کیونکہ بادشاہت میں دولت اور ریاست دونوں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبدیت کا حامل رسول ملوکیت کے حامل نبی سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا مقام داود، سلیمان اور یوسف علیہم السلام سے بلند ہے۔ "ختم شد

چنانچہ مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیائے کرام کے درجات یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے افضل ترین مقام اور مرتبہ اولوالعزم پیغمبروں کا ہے، اور ان میں سے افضل ترین ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سربراہ ہوں، اور سب سے پہلے میری قبر ہی شق ہوگی، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔) صحیح مسلم: (4223)

اس کے علاوہ انبیائے کرام کی فضیلت اور درجات میں ترتیب کے حوالے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں ہے، نہ ہی مسلمان کو ان کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں کھوج لگائے؛ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ اور اصول دین کی کتابوں میں اہل علم نے اس کے متعلق گفتگو نہیں کی۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (7459) اور (10669) کا جواب ملاحظہ کریں۔